


# UGREEN


## UGREEN HiTune S3 True Wireless Earbuds

Model: WS209

User Manual | Benutzerhandbuch | Manual de Utilizator | Manual de usuario  
Manual del Usuario | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書  
Handbook | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | Manual do Usuário



### 01 - Charging & Battery Level Checking



**EN** Prior to initial use, make sure to:  
1. remove the protective film on the earbuds.  
2. put earbuds in the charging case to activate the earbuds.  
3. fully charge the charging case and earbuds using a power adapter of at least 5V/1A.  
**Charging:**  
Pulsing white: Charge earbuds  
Steady white: Charge charging case  
White off: Fully charged  
**Battery level checking:**  
Flashing red: Battery <20%

**DE** Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch, dass Sie:  
1. die Schutzfolie von den Ohrhörern entfernen.  
2. die Ohrhörer in die Ladebox legen, um die Ohrhörer zu aktivieren.  
3. die Ladebox und die Ohrhörer mit einem Netzteil mit mindestens 5V/1A vollständig aufladen.  
**Anzeigen zum Aufladen**  
Weißes Anzeigen blinkend: Ohrhörer wird geladen  
Weißes Anzeigen immer an: Ladebox wird aufgeladen  
Weißes Anzeigen aus: Ladebox ist vollständig aufgeladen  
**Batteriestand prüfen**  
Rot: Anzeige blinkt: Batteriestand <20%.

**FR** Avant la première utilisation, veillez à:  
1. retirer le film protecteur des deux écouteurs L/R.  
2. placer les écouteurs dans l'étui de chargement pour les activer.  
3. charger complètement l'étui de chargement et les écouteurs à l'aide d'un adaptateur de courant d'au moins 5V/1A.  
**Charge**  
Blink blanc clignotant : Charger les écouteurs  
Blanc solide : Charger l'étui de chargement  
Blanc éteint : Chargeur complètement  
**Vérification du niveau de la batterie**  
Rouge clignotant : Batterie <20%

**ES** Antes del primer uso, asegúrese de:  
1. retirar la película protectora de los auriculares.  
2. Colocar los auriculares en el estuche de carga para activarlos.  
3. Cargar completamente el estuche de carga y los auriculares con un adaptador de corriente de al menos 5V/1A.  
**Carga**  
Blinko pulsante: Carga de los auriculares  
Blanco sólido: Carga el estuche de carga  
Blanco apagado: Cargador completamente  
**Verificación del nivel de la batería**  
Rojo intermitente: Batería <20%

**IT** Prima del primo utilizzo, assicurarsi di:  
1. rimuovere la pellicola protettiva dagli auricolari.  
2. inserire gli auricolari nella custodia di ricarica per attivarli.  
3. caricare completamente la custodia di ricarica e gli auricolari utilizzando un adattatore di alimentazione di almeno 5V/1A.  
**Ricarica**  
Bianco lampeggiante: auricolari in carica  
Bianco fisso: custodia di ricarica in carica  
Bianco spento: caricatore completo  
**Controllo del livello della batteria**  
Rosso lampeggiante: batteria <20%

-1-

-2-

-3-

-4-


-5-

-6-

-7-

-8-

-9-



**RU** Перед первым использованием убедитесь, что:  
1. сняли защитную пленку с наушников.  
2. поместили наушники в чехол для зарядки, чтобы включить их.  
3. полностью зарядить чехол для зарядки и наушники с помощью адаптера питания мощностью не менее 5V/1A.  
**Зарядка**  
Мерцающий белый свет: Зарядка наушников  
Светлый белый свет: Зарядка чехла для зарядки  
Белый выключен: Полностью заряжен  
**Проверка уровня заряда батареи**  
Мигает красный: Батарея <20%

**JP** 最初に使用する前に、以下のことを確認してください:  
1. イヤホンの保護フィルムを剥がします。  
2. イヤホンを充電ケースに入れ、イヤホンを起動させます。  
3. 5V/1A以上の電源アダプターを使用して、充電ケース/イヤホンを完全に充電してください。  
**充電**  
点滅する白色: イヤホン充電中  
常時点灯する白色: 充電ケース充電中  
白色がオフ: 完全に充電済み  
**バッテリーレベルを確認**  
点滅する赤色: バッテリー <20%

**TR** İlk kullanıma başlamadan önce şunları kontrol edin:  
1. Kulaklıkların koruyucu filmi çıkarın.  
2. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin.  
3. En az 5V/1A güç adaptörü kullanarak şarj kutusunu ve kulaklıkları tamamen şarj edin.  
**Şarj oluyur**  
Titiz beyaz: Şarj kutusuna şarj ediliyor  
Sürekli beyaz: Şarj kutusunu şarj ediniyor  
Beyaz yok: Şarj kutusu ve kulaklıklar tamamen şarj oldu.  
**Yük seviyesini kontrol et**  
Kırmızı yanıp sönüyor: Pil <20%

**PT** Antes do uso inicial, certifique-se de que:  
1. Remova a película protetora dos fones de ouvido.  
2. Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento para ativá-los.  
3. Carregue totalmente o estojo de carregamento e os fones de ouvido usando um adaptador de energia de pelo menos 5V/1A.  
**Carregamento**  
Branco pulsante: Carreg. fones de ouvido  
Branco sólido: Carreg. estojo de carregamento  
Branco apagado: Carregamento completo  
**Verificação do nível da bateria**  
Vermelho piscando: Bateria <20%

**IND** Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya, pastikan untuk:  
1. Melepaskan lapisan pelindung dari earbuds.  
2. Meletakkan earbuds di dalam kotak pengisian daya untuk mengaktifkan earbuds.  
3. Mengisi daya kotak pengisian daya dan earbuds sampai penuh dengan menggunakan adaptor daya minimal 5V/1A.  
**Pengisian Daya**  
Putih berkedip: Mengisi daya earbuds  
Putih tetap menyala: Mengisi daya kotak pengisian daya  
Putih mati: Daya terisi penuh  
**Pemeriksaan Level Baterai**  
Merah berkedip: Baterai <20%

**AR** قبل الاستخدام الأول، تأكد من:  
1. إزالة الغلاف الواقي المدمج على سماعات الأذن.  
2. وضع سماعات الأذن في علبة شحنها لتفعيلها.  
3. شحن علبة الشحن وسماعات الأذن باستخدام محول طاقة على الأقل من 5V/1A.  
**شحن**  
وميض أبيض: شحن سماعات الأذن  
أبيض ثابت: شحن علبة الشحن  
أبيض خامد: شحن كامل  
**التحقق من مستوى البطارية**  
وميض أحمر: بطارية <20%

### 02 - Powering On/Off



**SE** Före första användningen, se till att:  
1. ta bort skyddsfilmerna på öronskållarna.  
2. Sätt i öronskållarna i laddningsfodralet för att aktivera öronskållarna.  
3. Ladda laddningsfodralet och öronskållarna helt med en strömadaptör på minst 5V/1A.  
**Laddning**  
Pulsrandigt vitt: Laddning öronskållor  
Statiskt vitt: Laddning laddningsfodralet  
Vitt av: Fulladdat  
**Kontroll av batterinivå**  
Blinkande rött: Batteri <20 %

**PL** Przed pierwszym użyciem proszę:  
1. Usunąć folię ochronną z wkładki dosłuchowej.  
2. Włożyć wkładki dosłuchowe do etui ładującego, aby je aktywować.  
3. W pełni naładować etui ładujące i wkładki dosłuchowe za pomocą zasilacza o napięciu co najmniej 5 V/1 A.  
**Ladowanie**  
Pulsujące białe światło: Ładowanie wkładek dosłuchowych  
Stacjonarne białe światło: Ładowanie etui ładującego  
Brak wyświecania: W pełni naładowane  
**Sprawdzenie poziomu naładowania baterii**  
Migające czerwone światło: <20%

**TR** İlk kullanıma önce şunları kontrol edin olun:  
1. Kulaklıkların koruyucu filmi çıkarın.  
2. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin.  
3. En az 5V/1A güç adaptörü kullanarak şarj kutusunu ve kulaklıkları tamamen şarj edin.  
**Şarj oluyor**  
Titiz beyaz: Şarj kutusuna şarj ediliyor  
Sürekli beyaz: Şarj kutusunu şarj ediniyor  
Beyaz yok: Şarj kutusu ve kulaklıklar tamamen şarj oldu.  
**Yük seviyesini kontrol et**  
Kırmızı yanıp sönüyor: Pil <20%


**CN** 取出耳机前，放回即关机。  
**PT** Antes do uso inicial, certifique-se de que:  
1. Remova a película protetora dos fones de ouvido.  
2. Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento para ativá-los.  
3. Carregue totalmente o estojo de carregamento e os fones de ouvido usando um adaptador de energia de pelo menos 5V/1A.  
**Carregamento**  
Branco pulsante: Carreg. fones de ouvido  
Branco sólido: Carreg. estojo de carregamento  
Branco apagado: Carregamento completo  
**Verificação do nível da bateria**  
Vermelho piscando: Bateria <20%

**IND** Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya, pastikan untuk:  
1. Melepaskan lapisan pelindung dari earbuds.  
2. Meletakkan earbuds di dalam kotak pengisian daya untuk mengaktifkan earbuds.  
3. Mengisi daya kotak pengisian daya dan earbuds sampai penuh dengan menggunakan adaptor daya minimal 5V/1A.  
**Pengisian Daya**  
Putih berkedip: Mengisi daya earbuds  
Putih tetap menyala: Mengisi daya kotak pengisian daya  
Putih mati: Daya terisi penuh  
**Pemeriksaan Level Baterai**  
Merah berkedip: Baterai <20%

**AR** قبل الاستخدام الأول، تأكد من:  
1. إزالة الغلاف الواقي المدمج على سماعات الأذن.  
2. وضع سماعات الأذن في علبة شحنها لتفعيلها.  
3. شحن علبة الشحن وسماعات الأذن باستخدام محول طاقة على الأقل من 5V/1A.  
**شحن**  
وميض أبيض: شحن سماعات الأذن  
أبيض ثابت: شحن علبة الشحن  
أبيض خامد: شحن كامل  
**التحقق من مستوى البطارية**  
وميض أحمر: بطارية <20%

**DE** Vor der ersten Nutzung, stellen Sie sicher, dass Sie:  
1. die Schutzfolie von den Ohrhörern entfernen.  
2. die Ohrhörer in die Ladebox legen, um die Ohrhörer zu aktivieren.  
3. die Ladebox und die Ohrhörer mit einem Netzteil mit mindestens 5V/1A vollständig aufladen.  
**Anzeigen zum Aufladen**  
Weißes Anzeigen blinkend: Ohrhörer wird geladen  
Weißes Anzeigen immer an: Ladebox wird aufgeladen  
Weißes Anzeigen aus: Ladebox ist vollständig aufgeladen  
**Batteriestand prüfen**  
Rot: Anzeige blinkt: Batteriestand <20%.

### 03 - Earbud Wear & Adjustment



**EN** Take out earbuds to turn on earbuds. Place earbuds in case to turn them off.

**DE** Nehmen Sie die Ohrhörer heraus, um die Ohrhörer einzuschalten. Legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox, um sie auszuschalten.  
**FR** Retirez les écouteurs pour allumer les écouteurs. Placez les écouteurs dans l'étui pour les éteindre.  
**ES** Quite los auriculares para encenderlos. Coloque los auriculares en el estuche para apagarlos.  
**IT** Togliere gli auricolari per accenderli. Riporre gli auricolari nella custodia per spegnerli.  
**TR** Kulaklıkları çıkarın ve "S" (sağ) veya "L" (sol) işaretlerini doğru kulaklara karşılıklı olarak yerleştirin.  
**RU** Выньте вкладыши, чтобы включить наушники. Положите вкладыши в кейс для зарядки, чтобы выключить их.  
**JP** イヤホンの電源をオンにするには、イヤホンを取り出します。イヤホンをケースに入れ、電源を切ります。  
**CN** 取出耳机前，放回即关机。  
**PT** Antes do uso inicial, certifique-se de que:  
1. Remova a película protetora dos fones de ouvido.  
2. Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento para ativá-los.  
3. Carregue totalmente o estojo de carregamento e os fones de ouvido usando um adaptador de energia de pelo menos 5V/1A.  
**Carregamento**  
Branco pulsante: Carreg. fones de ouvido  
Branco sólido: Carreg. estojo de carregamento  
Branco apagado: Carregamento completo  
**Verificação do nível da bateria**  
Vermelho piscando: Bateria <20%

**IND** Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya, pastikan untuk:  
1. Melepaskan lapisan pelindung dari earbuds.  
2. Meletakkan earbuds di dalam kotak pengisian daya untuk mengaktifkan earbuds.  
3. Mengisi daya kotak pengisian daya dan earbuds sampai penuh dengan menggunakan adaptor daya minimal 5V/1A.  
**Pengisian Daya**  
Putih berkedip: Mengisi daya earbuds  
Putih tetap menyala: Mengisi daya kotak pengisian daya  
Putih mati: Daya terisi penuh  
**Pemeriksaan Level Baterai**  
Merah berkedip: Baterai <20%


**AR** قبل الاستخدام الأول، تأكد من:  
1. إزالة الغلاف الواقي المدمج على سماعات الأذن.  
2. وضع سماعات الأذن في علبة شحنها لتفعيلها.  
3. شحن علبة الشحن وسماعات الأذن باستخدام محول طاقة على الأقل من 5V/1A.  
**شحن**  
وميض أبيض: شحن سماعات الأذن  
أبيض ثابت: شحن علبة الشحن  
أبيض خامد: شحن كامل  
**التحقق من مستوى البطارية**  
وميض أحمر: بطارية <20%

**DE** Vor der ersten Nutzung, stellen Sie sicher, dass Sie:  
1. die Schutzfolie von den Ohrhörern entfernen.  
2. die Ohrhörer in die Ladebox legen, um die Ohrhörer zu aktivieren.  
3. die Ladebox und die Ohrhörer mit einem Netzteil mit mindestens 5V/1A vollständig aufladen.  
**Anzeigen zum Aufladen**  
Weißes Anzeigen blinkend: Ohrhörer wird geladen  
Weißes Anzeigen immer an: Ladebox wird aufgeladen  
Weißes Anzeigen aus: Ladebox ist vollständig aufgeladen  
**Batteriestand prüfen**  
Rot: Anzeige blinkt: Batteriestand <20%.

**IND** Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya, pastikan untuk:  
1. Melepaskan lapisan pelindung dari earbuds.  
2. Meletakkan earbuds di dalam kotak pengisian daya untuk mengaktifkan earbuds.  
3. Mengisi daya kotak pengisian daya dan earbuds sampai penuh dengan menggunakan adaptor daya minimal 5V/1A.  
**Pengisian Daya**  
Putih berkedip: Mengisi daya earbuds  
Putih tetap menyala: Mengisi daya kotak pengisian daya  
Putih mati: Daya terisi penuh  
**Pemeriksaan Level Baterai**  
Merah berkedip: Baterai <20%

**AR** قبل الاستخدام الأول، تأكد من:  
1. إزالة الغلاف الواقي المدمج على سماعات الأذن.  
2. وضع سماعات الأذن في علبة شحنها لتفعيلها.  
3. شحن علبة الشحن وسماعات الأذن باستخدام محول طاقة على الأقل من 5V/1A.  
**شحن**  
وميض أبيض: شحن سماعات الأذن  
أبيض ثابت: شحن علبة الشحن  
أبيض خامد: شحن كامل  
**التحقق من مستوى البطارية**  
وميض أحمر: بطارية <20%

### 04 - Pairing



**EN** 1. Take out the earbuds and ensure that the "R" (right) or "L" (left) markings correspond to the correct ears.  
2. Ensure the earbud speakers face your ear canal, then clip the earbuds onto your ear.  
3. Adjust the earbuds to a comfortable position.

**DE** 1. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und vergewissern Sie sich, dass die Markierungen "R" (rechts) oder "L" (links) mit den richtigen Ohren übereinstimmen.  
2. Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher der Ohrhörer zu Ihrem Gehörgang hin ausgerichtet sind, und stecken Sie die Ohrhörer dann auf Ihr Ohr.  
3. Stellen Sie dann eine Verbindung zu "UGREEN HiTune S3" aus der Bluetooth-Liste her.  
**FR** 1. Retirez les écouteurs.  
2. Assurez-vous que les haut-parleurs des écouteurs sont orientés vers votre conduit auditif, puis fixez les écouteurs sur votre oreille.  
3. Ajustez les écouteurs dans une position confortable.  
**ES** Quite los auriculares para encenderlos. Coloque los auriculares en el estuche para apagarlos.  
**IT** Togliere gli auricolari per accenderli. Riporre gli auricolari nella custodia per spegnerli.  
**TR** 1. Kulaklıkları çıkarın ve "S" (sağ) veya "L" (sol) işaretlerini doğru kulaklara karşılıklı olarak yerleştirin.  
2. Kulaklıkların hoparlörlerini kulak kanalınıza batırdığınızdan emin olun.  
3. Kulaklıkları kulaklarınıza takın.  
**RU** 1. Выньте вкладыши из кейса для зарядки.  
2. Убедитесь, что динамики вкладышей обращены к вашему слуховому проходу, затем закрепите вкладыши на ухе.  
3. Аjustуйте вкладыши в удобное положение.  
**JP** 1. イヤホンを取出し、右と左のマークが正しい耳に対応していることを確認し、イヤホンを耳にクリップします。  
2. イヤホンのスピーカーが耳の耳管を向いていることを確認し、イヤホンが耳にしっかりと固定されるように調整します。  
3. イヤホンを快適な位置に調整します。  
**CN** 取出耳机前，放回即关机。  
**PT** Antes do uso inicial, certifique-se de que:  
1. Remova a película protetora dos fones de ouvido.  
2. Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento para ativá-los.  
3. Carregue totalmente o estojo de carregamento e os fones de ouvido usando um adaptador de energia de pelo menos 5V/1A.  
**Carregamento**  
Branco pulsante: Carreg. fones de ouvido  
Branco sólido: Carreg. estojo de carregamento  
Branco apagado: Carregamento completo  
**Verificação do nível da bateria**  
Vermelho piscando: Bateria <20%

**IND** Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya, pastikan untuk:  
1. Melepaskan lapisan pelindung dari earbuds.  
2. Meletakkan earbuds di dalam kotak pengisian daya untuk mengaktifkan earbuds.  
3. Mengisi daya kotak pengisian daya dan earbuds sampai penuh dengan menggunakan adaptor daya minimal 5V/1A.  
**Pengisian Daya**  
Putih berkedip: Mengisi daya earbuds  
Putih tetap menyala: Mengisi daya kotak pengisian daya  
Putih mati: Daya terisi penuh  
**Pemeriksaan Level Baterai**  
Merah berkedip: Baterai <20%


**AR** قبل الاستخدام الأول، تأكد من:  
1. إزالة الغلاف الواقي المدمج على سماعات الأذن.  
2. وضع سماعات الأذن في علبة شحنها لتفعيلها.  
3. شحن علبة الشحن وسماعات الأذن باستخدام محول طاقة على الأقل من 5V/1A.  
**شحن**  
وميض أبيض: شحن سماعات الأذن  
أبيض ثابت: شحن علبة الشحن  
أبيض خامد: شحن كامل  
**التحقق من مستوى البطارية**  
وميض أحمر: بطارية <20%

**DE** Vor der ersten Nutzung, stellen Sie sicher, dass Sie:  
1. die Schutzfolie von den Ohrhörern entfernen.  
2. die Ohrhörer in die Ladebox legen, um die Ohrhörer zu aktivieren.  
3. die Ladebox und die Ohrhörer mit einem Netzteil mit mindestens 5V/1A vollständig aufladen.  
**Anzeigen zum Aufladen**  
Weißes Anzeigen blinkend: Ohrhörer wird geladen  
Weißes Anzeigen immer an: Ladebox wird aufgeladen  
Weißes Anzeigen aus: Ladebox ist vollständig aufgeladen  
**Batteriestand prüfen**  
Rot: Anzeige blinkt: Batteriestand <20%.

**IND** Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya, pastikan untuk:  
1. Melepaskan lapisan pelindung dari earbuds.  
2. Meletakkan earbuds di dalam kotak pengisian daya untuk mengaktifkan earbuds.  
3. Mengisi daya kotak pengisian daya dan earbuds sampai penuh dengan menggunakan adaptor daya minimal 5V/1A.  
**Pengisian Daya**  
Putih berkedip: Mengisi daya earbuds  
Putih tetap menyala: Mengisi daya kotak pengisian daya  
Putih mati: Daya terisi penuh  
**Pemeriksaan Level Baterai**  
Merah berkedip: Baterai <20%

**AR** قبل الاستخدام الأول، تأكد من:  
1. إزالة الغلاف الواقي المدمج على سماعات الأذن.  
2. وضع سماعات الأذن في علبة شحنها لتفعيلها.  
3. شحن علبة الشحن وسماعات الأذن باستخدام محول طاقة على الأقل من 5V/1A.  
**شحن**  
وميض أبيض: شحن سماعات الأذن  
أبيض ثابت: شحن علبة الشحن  
أبيض خامد: شحن كامل  
**التحقق من مستوى البطارية**  
وميض أحمر: بطارية <20%

### 05 - Force Pairing



**EN** 1. Open the lid and take out the earbuds to activate pairing mode, indicated by an alternately flashing red and white indicator on the main earbud.  
2. In 5 minutes, connect to "UGREEN HiTune S3" from your device's Bluetooth list.  
3. If pairing is not completed within 5 minutes, press and hold the earbuds in the charging case, close the lid, and then take out the earbuds.

**DE** 1. Öffnen Sie die Ladebox und nehmen Sie die Ohrhörer heraus, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Dies wird durch eine abwechselnd rot und weiß blinkende Anzeige auf dem Haupt-Ohrhörer angezeigt.  
2. Stellen Sie dann eine Verbindung zu "UGREEN HiTune S3" aus der Bluetooth-Liste her.  
3. Wenn die Verbindung innerhalb von 5 Minuten nicht hergestellt wird, drücken Sie die Ohrhörer in der Ladebox zusammen, schließen Sie den Deckel und nehmen Sie die Ohrhörer heraus.  
**FR** 1. Ouvrez le couvercle et retirez les écouteurs pour les permettre d'entrer en mode d'appariage, indiqué par un indicateur rouge et blanc clignotant alternativement sur l'écouteur principal.  
2. Anliss dans les 5 minutes, connectez-vous à "UGREEN HiTune S3" dans la liste Bluetooth de votre appareil.  
3. Si l'appariage n'est pas terminé dans les 5 minutes, appuyez et maintenez les écouteurs dans l'étui de chargement, fermez le couvercle, puis retirez les écouteurs.  
**ES** 1. Abra la tapa y saque los auriculares para activar el modo de emparejamiento, indicado por un indicador rojo y blanco que parpadea alternativamente en el auricular principal.  
2. Conecte con "UGREEN HiTune S3" en la lista Bluetooth de su dispositivo.  
3. Si no se completa el emparejamiento en 5 minutos, pulse y mantenga presionados los auriculares en el estuche de carga, cierre la tapa y, a continuación, saque los auriculares.  
**IT** 1. Aprire il coperchio ed estrarre gli auricolari per attivare la modalità di associazione, indicato da un indicatore rosso e bianco che parpadea alternativamente sull'auricolare principale.  
2. Collegarsi con "UGREEN HiTune S3" dall'elenco Bluetooth del proprio dispositivo.  
3. Se l'associazione non viene completata entro 5 minuti, premere e tenere premuti gli auricolari in custodia di ricarica, chiudere il coperchio, quindi estrarre gli auricolari.  
**TR** 1. Kapağı açarak ve kulakları çıkararak, eşleşme modunu etkinleştirin. Bu, ana kulaklıkta kırmızı ve beyaz ışıkların alternatif olarak yanıp sönmesiyle gösterilir.  
2. 5 dakika içinde eşleşme listesinden "UGREEN HiTune S3" ile eşleşin.  
3. Eşleşme 5 dakika içinde tamamlanmazsa, şarj kutusunu kapatın ve kulaklıkları çıkararak eşleşme modunu etkinleştirin. Şarj kutusunu kapatın ve kulaklıkları çıkararak eşleşme modunu etkinleştirin.  
**RU** 1. Откройте крышку и выньте вкладыши, чтобы активировать режим сопряжения. Это будет обозначено попеременно мигающей красной и белой индикацией.  
2. Через 5 минут подключитесь к "UGREEN HiTune S3" в списке Bluetooth вашего устройства.  
3. Если сопряжение не завершено в течение 5 минут, нажмите и удерживайте оба вкладыша в кейсе для зарядки, закройте крышку и затем выньте вкладыши.  
**JP** 1. 蓋を開けてイヤホンを取り出し、ペアリングモードを起動させます。これは、メインイヤホンの赤と白のLEDが交互に点滅することによって示されます。  
2. 5分以内に自分のBluetoothリストから「UGREEN HiTune S3」に接続します。  
3. 5分以内にペアリングが完了しない場合、イヤホンを充電ケースに入れ、蓋を閉めてからイヤホンを取り出してください。

**IND** Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya, pastikan untuk:  
1. Melepaskan lapisan pelindung dari earbuds.  
2. Meletakkan earbuds di dalam kotak pengisian daya untuk mengaktifkan earbuds.  
3. Mengisi daya kotak pengisian daya dan earbuds sampai penuh dengan menggunakan adaptor daya minimal 5V/1A.  
**Pengisian Daya**  
Putih berkedip: Mengisi daya earbuds  
Putih tetap menyala: Mengisi daya kotak pengisian daya  
Putih mati: Daya terisi penuh  
**Pemeriksaan Level Baterai**  
Merah berkedip: Baterai <20%


**AR** قبل الاستخدام الأول، تأكد من:  
1. إزالة الغلاف الواقي المدمج على سماعات الأذن.  
2. وضع سماعات الأذن في علبة شحنها لتفعيلها.  
3. شحن علبة الشحن وسماعات الأذن باستخدام محول طاقة على الأقل من 5V/1A.  
**شحن**  
وميض أبيض: شحن سماعات الأذن  
أبيض ثابت: شحن علبة الشحن  
أبيض خامد: شحن كامل  
**التحقق من مستوى البطارية**  
وميض أحمر: بطارية <20%

**DE** Vor der ersten Nutzung, stellen Sie sicher, dass Sie:  
1. die Schutzfolie von den Ohrhörern entfernen.  
2. die Ohrhörer in die Ladebox legen, um die Ohrhörer zu aktivieren.  
3. die Ladebox und die Ohrhörer mit einem Netzteil mit mindestens 5V/1A vollständig aufladen.  
**Anzeigen zum Aufladen**  
Weißes Anzeigen blinkend: Ohrhörer wird geladen  
Weißes Anzeigen immer an: Ladebox wird aufgeladen  
Weißes Anzeigen aus: Ladebox ist vollständig aufgeladen  
**Batteriestand prüfen**  
Rot: Anzeige blinkt: Batteriestand <20%.

**IND** Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya, pastikan untuk:  
1. Melepaskan lapisan pelindung dari earbuds.  
2. Meletakkan earbuds di dalam kotak pengisian daya untuk mengaktifkan earbuds.  
3. Mengisi daya kotak pengisian daya dan earbuds sampai penuh dengan menggunakan adaptor daya minimal 5V/1A.  
**Pengisian Daya**  
Putih berkedip: Mengisi daya earbuds  
Putih tetap menyala: Mengisi daya kotak pengisian daya  
Putih mati: Daya terisi penuh  
**Pemeriksaan Level Baterai**  
Merah berkedip: Baterai <20%

**AR** قبل الاستخدام الأول، تأكد من:  
1. إزالة الغلاف الواقي المدمج على سماعات الأذن.  
2. وضع سماعات الأذن في علبة شحنها لتفعيلها.  
3. شحن علبة الشحن وسماعات الأذن باستخدام محول طاقة على الأقل من 5V/1A.  
**شحن**  
وميض أبيض: شحن سماعات الأذن  
أبيض ثابت: شحن علبة الشحن  
أبيض خامد: شحن كامل  
**التحقق من مستوى البطارية**  
وميض أحمر: بطارية <20%

### 06 - Pairing



**EN** 1. Take out the earbuds and ensure that the "R" (right) or "L" (left) markings correspond to the correct ears.  
2. Ensure the earbud speakers face your ear canal, then clip the earbuds onto your ear.  
3. Adjust the earbuds to a comfortable position.

**DE** 1. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und vergewissern Sie sich, dass die Markierungen "R" (rechts) oder "L" (links) mit den richtigen Ohren übereinstimmen.  
2. Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher der Ohrhörer zu Ihrem Gehörgang hin ausgerichtet sind, und stecken Sie die Ohrhörer dann auf Ihr Ohr.  
3. Stellen Sie dann eine Verbindung zu "UGREEN HiTune S3" aus der Bluetooth-Liste her.  
**FR** 1. Retirez les écouteurs.  
2. Assurez-vous que les haut-parleurs des écouteurs sont orientés vers votre conduit auditif, puis fixez les écouteurs sur votre oreille.  
3. Ajustez les écouteurs dans une position confortable.  
**ES** Quite los auriculares para encenderlos. Coloque los auriculares en el estuche para apagarlos.  
**IT** Togliere gli auricolari per accenderli. Riporre gli auricolari nella custodia per spegnerli.  
**TR** 1. Kulaklıkları çıkarın ve "S" (sağ) veya "L" (sol) işaretlerini doğru kulaklara karşılıklı olarak yerleştirin.  
2. Kulaklıkların hoparlörlerini kulak kanalınıza batırdığınızdan emin olun.  
3. Kulaklıkları kulaklarınıza takın.  
**RU** 1. Выньте вкладыши из кейса для зарядки.  
2. Убедитесь, что динамики вкладышей обращены к вашему слуховому проходу, затем закрепите вкладыши на ухе.  
3. Аjustуйте вкладыши в удобное положение.  
**JP** 1. イヤホンを取出し、右と左のマークが正しい耳に対応していることを確認し、イヤホンが耳にしっかりと固定されるように調整します。  
2. イヤホンのスピーカーが耳の耳管を向いていることを確認し、イヤホンが耳にしっかりと固定されるように調整します。  
3. イヤホンを快適な位置に調整します。  
**CN** 取出耳机前，放回即关机。  
**PT** Antes do uso inicial, certifique-se de que:  
1. Remova a película protetora dos fones de ouvido.  
2. Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento para ativá-los.  
3. Carregue totalmente o estojo de carregamento e os fones de ouvido usando um adaptador de energia de pelo menos 5V/1A.  
**Carregamento**  
Branco pulsante: Carreg. fones de ouvido  
Branco sólido: Carreg. estojo de carregamento  
Branco apagado: Carregamento completo  
**Verificação do nível da bateria**  
Vermelho piscando: Bateria <20%

**IND** Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya, pastikan untuk:  
1. Melepaskan lapisan pelindung dari earbuds.  
2. Meletakkan earbuds di dalam kotak pengisian daya untuk mengaktifkan earbuds.  
3. Mengisi daya kotak pengisian daya dan earbuds sampai penuh dengan menggunakan adaptor daya minimal 5V/1A.  
**Pengisian Daya**  
Putih berkedip: Mengisi daya earbuds  
Putih tetap menyala: Mengisi daya kotak pengisian daya  
Putih mati: Daya terisi penuh  
**Pemeriksaan Level Baterai**  
Merah berkedip: Baterai <20%


**AR** قبل الاستخدام الأول، تأكد من:  
1. إزالة الغلاف الواقي المدمج على سماعات الأذن.  
2. وضع سماعات الأذن في علبة شحنها لتفعيلها.  
3. شحن علبة الشحن وسماعات الأذن باستخدام محول طاقة على الأقل من 5V/1A.  
**شحن**  
وميض أبيض: شحن سماعات الأذن  
أبيض ثابت: شحن علبة الشحن  
أبيض خامد: شحن كامل  
**التحقق من مستوى البطارية**  
وميض أحمر: بطارية <20%

**DE** Vor der ersten Nutzung, stellen Sie sicher, dass Sie:  
1. die Schutzfolie von den Ohrhörern entfernen.  
2. die Ohrhörer in die Ladebox legen, um die Ohrhörer zu aktivieren.  
3. die Ladebox und die Ohrhörer mit einem Netzteil mit mindestens 5V/1A vollständig aufladen.  
**Anzeigen zum Aufladen**  
Weißes Anzeigen blinkend: Ohrhörer wird geladen  
Weißes Anzeigen immer an: Ladebox wird aufgeladen  
Weißes Anzeigen aus: Ladebox ist vollständig aufgeladen  
**Batteriestand prüfen**  
Rot: Anzeige blinkt: Batteriestand <20%.

**IND** Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya, pastikan untuk:  
1. Melepaskan lapisan pelindung dari earbuds.  
2. Meletakkan earbuds di dalam kotak pengisian daya untuk mengaktifkan earbuds.  
3. Mengisi daya kotak pengisian daya dan earbuds sampai penuh dengan menggunakan adaptor daya minimal 5V/1A.  
**Pengisian Daya**  
Putih berkedip: Mengisi daya earbuds  
Putih tetap menyala: Mengisi daya kotak pengisian daya  
Putih mati: Daya terisi penuh  
**Pemeriksaan Level Baterai**  
Merah berkedip: Baterai <20%

**AR** قبل الاستخدام الأول، تأكد من:  
1. إزالة الغلاف الواقي المدمج على سماعات الأذن.  
2. وضع سماعات الأذن في علبة شحنها لتفعيلها.  
3. شحن علبة الشحن وسماعات الأذن باستخدام محول طاقة على الأقل من 5V/1A.  
**شحن**  
وميض أبيض: شحن سماعات الأذن  
أبيض ثابت: شحن علبة الشحن  
أبيض خامد: شحن كامل  
**التحقق من مستوى البطارية**  
وميض أحمر: بطارية <20%

### 07 - Force Pairing



**EN** 1. Open the lid and take out the earbuds to activate pairing mode, indicated by an alternately flashing red and white indicator on the main earbud.  
2. In 5 minutes, connect to "UGREEN HiTune S3" from your device's Bluetooth list.  
3. If pairing is not completed within 5 minutes, press and hold the earbuds in the charging case, close the lid, and then take out the earbuds.

**DE** 1. Öffnen Sie die Ladebox und nehmen Sie die Ohrhörer heraus, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Dies wird durch eine abwechselnd rot und weiß blinkende Anzeige auf dem Haupt-Ohrhörer angezeigt.  
2. Stellen Sie dann eine Verbindung zu "UGREEN HiTune S3" aus der Bluetooth-Liste her.  
3. Wenn die Verbindung innerhalb von 5 Minuten nicht hergestellt wird, drücken Sie die Ohrhörer in der Ladebox zusammen, schließen Sie den Deckel und nehmen Sie die Ohrhörer heraus.  
**FR** 1. Ouvrez le couvercle et retirez les écouteurs pour les permettre d'entrer en mode d'appariage, indiqué par un indicateur rouge et blanc clignotant alternativement sur l'écouteur principal.  
2. Anliss dans les 5 minutes, connectez-vous à "UGREEN HiTune S3" dans la liste Bluetooth de votre appareil.  
3. Si l'appariage n'est pas terminé dans les 5 minutes, appuyez et maintenez les écouteurs dans l'étui de chargement, fermez le couvercle, puis retirez les écouteurs.  
**ES** 1. Abra la tapa y saque los auriculares para activar el modo de emparejamiento, indicado por un indicador rojo y blanco que parpadea alternativamente en el auricular principal.  
2. Conecte con "UGREEN HiTune S3" en la lista Bluetooth de su dispositivo.  
3. Si no se completa el emparejamiento en 5 minutos, pulse y mantenga presionados los auriculares en el estuche de carga, cierre la tapa y, a continuación, saque los auriculares.